



Ghani Global Group

GHANI GLOBAL GLASS LIMITED

Manufacturers of World Class Tubing & Glassware

Ref: GGGL/Corp/BB/PSX/15425

Lahore: dated April 15, 2025

✓ **The General Manager**
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

NEWSPAPER CUTTINGS
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR BUY BACK OF SHARES OF THE
COMPANY


Dear Sir,

This is in continuation of our letter no. GGGL/Corp/BB/PSX/14425, dated April 14, 2025, we are pleased to enclose newspaper cuttings of public announcement for buy back of shares of the Company published in Daily Dawn and Daily Ausaf on April 15, 2025 in Karachi, Lahore & Islamabad, for your information and placement on record.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Please acknowledge the receipt.

Yours truly,
for **GHANI GLOBAL GLASS LIMITED**


FARZAND ALI
Company Secretary

CC:

1. Executive Director/HOD
Offsite-II Department,
Supervision Division, SECP,
NIC Building, 63 Jinnah, Avenue,
Blue Area, Islamabad.
2. Director/HOD
Surveillance, Supervision and
Enforcement Department, SECP,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.
3. Joint Registrar,
Companies Registration Office,
SECP, 3rd Floor, Associated House,
7-Egerton Road, Lahore.

Corporate Office:

10-N, Model Town Ext. Lahore - 54700, Pakistan.
UAN: 111-Ghani1, Ph: +92-42-35161424-5
Fax: (092) 42-35160393
E-mail: info@ghaniglobalglass.com
Web: www.ghaniglobalglass.com

Regional Marketing Office:

7-A, Block F, Gulshan-e-Jamal
Rashid Minhas Road
Karachi - 75260
Ph: (021) 34572150
E-mail: glassmkt@ghaniglobal.com

Glass Plant:

52-Km, Multan Road
Phool Nagar Bypass,
Distt. Kasur - 55260
Ph: (049) 4510349-549
E-mail: glassplant@ghaniglobalglass.com

FOUNDED

BY QAUID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH



DAWN

www.dawn.com

Tuesday
April 15, 2025
Shawwal 16, 1446
LAHORE
Rs. 35.00
18 Pages
Vol. LXXX No. 103
Regd. No. CPL-199

G³ PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR BUY BACK OF SHARES
GHANI GLOBAL GLASS LIMITED
 Ghani Global Group In terms of the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019.

Name and address of the registered office of the purchasing company;	Ghani Global Glass Limited 10-N, Model Town Ext. Lahore.	
Purpose of the purchase;	Treasury Shares	
Indicative quantum of the purchase both in terms of number and as a percentage of the paid up capital of the purchasing company, as applicable	The purchase/buy-back by the Company of up to 24,000,000 (Twenty Four Million) ordinary shares (i.e. 10% of the outstanding shares) of the Company of the face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each through the securities exchange (i.e. Pakistan Stock Exchange) at spot price per share (not exceeding Rs. 12.00 per share) during the purchase period	
Date of commencement of the purchase i.e. effective date of the purchase	April 21, 2025	
Duration of the purchase period	April 21, 2025 to October 09, 2025 or till such date that purchase is complete, whichever is earlier	
Name of the securities exchange	Pakistan Stock Exchange Limited (PSX)	
	Authorized Officer appointed by Purchasing Company	Person appointed by the Company to handle Queries and Complaints regarding the Purchase
Name	Farzand Ali	Farzand Ali
Designation	Company Secretary	Company Secretary
Phone number	+92 (42) 35161424-5	+92 (42) 35161424-5
Postal address	10-N, Model Town Ext. Lahore	10-N, Model Town Ext. Lahore
Email address	farzandali@ghaniglobal.com	farzandali@ghaniglobal.com
Any other information the purchasing company deems necessary to provide	The shares held by the company as treasury shares shall meet the following conditions: 1. Voting rights of these shares shall remain suspended; 2. No cash dividend shall be paid and no other distribution, whether in cash or otherwise of the company's assets, including any distribution of assets to members on a winding up shall be made to the company in respect of these shares; However, on allotment of shares as fully paid bonus shares in respect of the treasury shares can be made.	

In compliance with regulation 12(2) of the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, during the purchase period from April 21, 2025 to October 09, 2025 (or till such date that purchase is complete, whichever is earlier), no Sponsor, Director, Officer, Associated Company and /or Undertaking of the Purchasing Company shall directly or indirectly sale the shares of the Purchasing Company.

Place: Lahore
Dated: April 14, 2025

For and on behalf of
GHANI GLOBAL GLASS LIMITED
FARZAND ALI
 Company Secretary

CORPORATE OFFICE: 10-N. MODEL TOWN EXT. LAHORE. WWW.GHANIGLOBALGLASS.COM

غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ

Ghani Global Group

حصص کی واپس خریداری کے لئے اعلان عام

لمیٹڈ کمپنیز (Buy-Back of Shares) ریگولیشنز 2019 کے مطابق

خریداری کمپنی کا نام اور رجسٹرڈ دفتر کا پتہ	غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ، 10-این، ماڈل ٹاؤن ایسٹیشن، لاہور
خریداری کا مقصد	فرزندی شیئرز
خریداری کا ظاہر کیا گیا کوآرڈم بلحاظ تعداد اور بطور خریداری کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ کا فیصد	کمپنی کی جانب سے کمپنی کے 24,000,000 (چوبیس ملین) ایک عام حصص (یعنی واجب الادا شیئرز کا 10 فیصد) 10 (دس) روپے فی شیئر فیس و لیجو کی بذریعہ سیکورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج) کی سہا پر خریداری واپس خریداری (جبکہ خریداری کی مدت کے دوران فی شیئر پریس 12.00 روپے فی شیئر سے زیادہ نہ ہو)

خریداری کے آغاز کی تاریخ یعنی خریداری کی موثر تاریخ	21 اپریل 2025
خریداری کی مدت کا دورانیہ	21 اپریل 2025 سے 19 اکتوبر 2025 یا وہ تاریخ جس پر خریداری مکمل ہو، جو بھی پہلے ہو

خریداری سے متعلق استفسارات اور شکایات نمٹانے کے لئے کمپنی کی جانب سے مقرر کئے گئے مفاز	افسر کا نام، عہدہ، فون نمبر، ڈاک اور ای میل پتہ
فرزندی	فرزندی
کمپنی سیکرٹری	کمپنی سیکرٹری

نام	فرزندی
عہدہ	کمپنی سیکرٹری
فون نمبر	+92 (42) 35161624-5
پوسٹل ایڈریس	10-این، ماڈل ٹاؤن ایسٹیشن، لاہور
ای میل پتہ	farzandali@ghaniglobal.com

کوئی دیگر معلومات جو خریداری کمپنی فراہم کرتا ضروری سمجھے	کمپنی کے پاس موجود شیئرز بطور فرزندی شیئرز درج ذیل شرائط پر پورا اتریں گے:
	1. ان شیئرز کے دو تہ حصے معطل رہیں گے
	2. کوئی کیش ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا جائیگا اور نہ ہی کوئی دیگر تقسیم کی جائے گی، خواہ نقد ہو یا کمپنی کے اثاثوں کی، بشمول وائسٹاپ پر ان شیئرز کے حوالے سے ارکان کو ہونے والی اثاثوں کی کوئی بھی تقسیم کمپنی کو کی جائے گی
	3. تمام فرزندی شیئرز کے حوالے کی طور پر ادا شدہ بونس شیئرز کے طور پر شیئرز کی الاٹمنٹ کی جائے گی۔

لمیٹڈ کمپنیز (Buy-Back of Shares) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن (2) 12 کی قیام میں 21 اپریل 2025 تا 09 اکتوبر 2025 (یا وہ تاریخ جس پر خریداری مکمل ہو، جو بھی پہلے ہو) کی خریداری کی مدت کے دوران کوئی بھی سپانسر، ڈائریکٹر، افسر، ملحقہ کمپنی اور لیا خریداری کمپنی کی انڈر لینگ براہ راست یا بالواسطہ خریداری کمپنی کو شیئرز فروخت نہیں کرے گا۔

برائے دستخط غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ
فرزاند علی
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 14 اپریل 2025
مقام: لاہور

CORPORATE OFFICE: 10-N. MODEL TOWN EXT. LAHORE. WWW.GHANIGLOBALGLASS.COM

ABC
CERTIFIED
قسم ہے فلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں القرآن
لاہور پاکستان اسلام آباد کراچی پشاور جالندھر سکسٹین انڈیا پاکستان اور دیگر ملکوں میں شائع ہونے والے اخبارات
اعلیٰ صحافتی اور سائنس کا علمبردار
http://www.dailyausaf.com E-mail: ausafid@gmail.com
DAILY
AUSAF
LAHORE
روزنامہ
اوساف
لاہور
شمارہ: 158
جلد: 27
تاریخ: 15 اپریل 2025
رجسٹرڈ ID 174

اوساف